

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ސަރުކާރު ދިވެހި

ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

1365-CVC-2024

މިއަދުގެ ވަނަ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި

ސަރުކާރު ދިވެހި

10 ޖުޖުމާރާ ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި 1447

30 ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި 2025



ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަންޓްޕްރިންޓްކުރުމަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ

ކަނޑުކަނޑުކުރުމަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ (ޖެނެރަލް)

ކަނޑުކަނޑުކުރުމަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ: C-0272/2010

ކަނޑުކަނޑުކުރުމަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ

21 ފެބްރުއަރީ 2024

29 2024



9.15	66,538/-	66,538/-	2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން
9.16	18,828/-	93,756/-	2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން
9.17	113,584/-	238,984/-	2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން
9.18	126,009/-	126,009/-	2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން

ފަންޖަރު ވަނަ އަހަރުގެ ޖަހާން	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)
9.19	20,967/-	106,581/-	106,581/-	2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން

ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން

ފަންޖަރު ވަނަ އަހަރުގެ ޖަހާން	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)
9.13	2,460,928/-	2,600,500/-	2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން
9.19	85,614/- (ފޯރުކޮށްދޭ) 20,967/- ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން (ޖަހާން)	106,581/-	2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން
9.20	108,919/-	108,919/-	2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަހާން



تتمتع المحكمة المدنية بسلطة تقديرية في منح الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة. كما يمكن للمحكمة أن تقرر الإفراج عن الموقوفين في حالات الطوارئ، وذلك في ضوء تقييمها لخطورة الموقوفين ومدى تأثير الإفراج عنهم على المجتمع.

في المادة 49 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

10-11 في المادة 10-11 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

10 في المادة 10 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

11 في المادة 11 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

14 في المادة 14 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

16 في المادة 16 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 17 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 18 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 19 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

10-12 في المادة 10-12 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 343/Cv-C/2013 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 2019/HC-A/216 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.

في المادة 21 من القانون المدني، ينص على أن المحكمة المدنية هي المختصة بتقرير الإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على تقييمها الموضوعي لظروف كل حالة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع والعدالة.



نہایت سے زیادہ اہمیت کے ساتھ، درخواستی نے کہا ہے کہ وہ اپنی عدالت کی ...
... کو ... کے ... اور ... کے ...
... کے ...

قانونی نگرانی کے قریبی رابطوں کے ساتھ

11.1. ایک اور قریبی رابطہ ...

11.1 کے تحت، درخواستی نے کہا ہے کہ وہ اپنی عدالت کی ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...

11.2 کے تحت، درخواستی نے کہا ہے کہ وہ اپنی عدالت کی ...
... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...

... کے ... اور ... کے ...
... کے ... اور ... کے ...



11.6
11.6
11.6

11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6

11.6



12.8 اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے (سٹوڈنٹس ڈیپارٹمنٹ کے برائے عدالت)

12.3 کے تحت (سٹوڈنٹس ڈیپارٹمنٹ کے برائے عدالت) کے تحت 12.3 کے تحت

میں عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف؛

"..... عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

سٹوڈنٹس ڈیپارٹمنٹ کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف....."

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

12.9 عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

12.10 عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف

عدالت کے فیصلے کے خلاف، اہلکار کے برائے عدالت کے فیصلے کے خلاف



"... 42 ...
...
...
..."

...
...
...
... 42 ...
...
...
... 49 ...
...
...
...

12.16 ...
...
...
... 12.3 ...
...
...
...
...
...



ጥያቄው ለመገምገም ስራው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ሌሎችም ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

13.5 ርዕይ ስራዎች፣ ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። 49 ዓ.ገ. (ሀ) ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። 49 ዓ.ገ. (ለ) ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

16 መስመር ስራዎች ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

49 ዓ.ገ. (ሀ) ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

13.6 ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። (2020/HC-A/275) ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።

ጥያቄው ላይ ተገቢ ሆኖ ማረጋገጥ ይገባል። ስራዎች ላይ ስራው ላይ ማረጋገጥ ይገባል።



دائریہ طور پر ای میل کے ذریعے فراہم کیے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 46 ویں آرڈیننس کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(ب) کے تحت فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

13.7 کے تحت فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

13.8 کے تحت فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

13.9 کے تحت فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔

فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فراہم کیے گئے ہیں۔



نہایت اہمیت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

14.5 اس کی سماعت کی تاریخیں A2 کے ساتھ مندرجہ ذیل ہیں، اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

2018/HC-A/423 قانونی سرپرستی 16 ویں تاریخ کو اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

قانونی سرپرستی کے تحت اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

قانونی سرپرستی کے تحت اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

15. اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔

قانونی سرپرستی کے تحت اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔
اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔	اس کی سماعت کی تاریخیں تبدیل کی گئی ہیں۔
9.13	2,460,928/-	2,600,500/-	2015



2017 16.2 وسر ارزندی قلمداد نائید، قوس، موسوسه ادر روموسه لایحه ای بی ارس. ج. نادر

دعویه ای که در صورتی که در لایحه ای و در لایحه ای

و در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

لایحه ای

16.2.1 2017 وسر ارزندی قلمداد نائید، قوس، موسوسه ادر روموسه لایحه ای بی ارس. ج. نادر

بی ارس. ج. نادر و در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

16.2.2 ترقیه قضاوتی و 3-35 که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

وسر ارزندی قلمداد نائید، قوس، موسوسه ادر روموسه لایحه ای بی ارس. ج. نادر

ارزندی قلمداد نائید، قوس، موسوسه ادر روموسه لایحه ای بی ارس. ج. نادر

16.2.3 ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

1.2.1) ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

16.2.4 ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای

ا در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای که در لایحه ای



قانونی مرکز کی خدمات اور اس کے ذریعے کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں

17.17. قومی عدالت اور قومی عدالتوں کے ججوں اور ججوں کے سربراہوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

17.18. قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

17.20. قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

"(ر) قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

(س) قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

17.30. قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

"قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان

قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان اور قومی عدالتوں کے ججوں کے درمیان



رئيس مجلس القضاء في جمهورية مصر العربية، في تاريخ 3/2010 (العدد 3/2010) رقم 30
 من 01 (العدد 01) رقم 14/2011 (العدد 14/2011) رقم 35
 من 2012 رقم 42 (العدد 42) رقم 24
 من 30
 من 37 (العدد 37) رقم 1
 من 2012 رقم 44 (العدد 44) رقم 24

25. من 3/2010 (العدد 3/2010) رقم 34 (العدد 34) رقم 24

من 2012 رقم 24 (العدد 24) رقم 1



حکومتی اداروں کے افسران کی جانب سے جاری شدہ دستاویزوں اور ریکارڈز کی جانچ و نظر کے لیے تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے 44 ویں آرڈیننس کے تحت قانون سازی کی گئی ہے۔

(س) جو آرڈیننس (ر) کی ترمیم کے لیے منظور ہو گا، اس کی منظوری کے لیے تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے 44 ویں آرڈیننس کے تحت قانون سازی کی گئی ہے۔

(ب) جو آرڈیننس (ر) اور (س) کی ترمیم کے لیے منظور ہو گا، اس کی منظوری کے لیے تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے 44 ویں آرڈیننس کے تحت قانون سازی کی گئی ہے۔

(1) 44 ویں آرڈیننس (ر) کی ترمیم کے لیے منظور ہو گا، اس کی منظوری کے لیے تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے 44 ویں آرڈیننس کے تحت قانون سازی کی گئی ہے۔

(2) 44 ویں آرڈیننس (ر) کی ترمیم کے لیے منظور ہو گا، اس کی منظوری کے لیے تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے 44 ویں آرڈیننس کے تحت قانون سازی کی گئی ہے۔



المادة 42 من الدستور هي التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام. كما تنص المادة 42 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام.

32. المادة 32 من الدستور هي التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام. كما تنص المادة 32 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام.

33. المادة 33 من الدستور هي التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام. كما تنص المادة 33 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وأنها تتصرف بحرية في إصدار الأحكام.



4 قرار المحكمة رقم 2023/HC-A/188 الصادر في 2023

5 قرار المحكمة رقم 2015/SC-A/20 الصادر في 2015

6 قرار المحكمة رقم 2021/SC-A/108 الصادر في 2021

تہذیب شعور کی ترقی اور نیشنل سروسز کے تحت 16 ستمبر 2020ء کی نیشنل سروسز
 کے تحت 49 ویں ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس
 اور دیگر سروسز کے تحت 16 ستمبر 2020ء کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت 3/2010 (خ) کے تحت 3 ویں آرڈیننس کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے تحت
 (27/2020) کی 49 ویں ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت 12 ویں ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے¹²
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے¹³
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے¹⁴

34.4 ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 25 اگست 2018ء کی سروسز کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 1885/Cv-C/2018 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 2022/HC-A/406 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے
 1885/Cv-C/2018 کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے



12 ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے 2008/SC-C/02 کے تحت
 13 ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے 2014/Sc-A/41 کے تحت
 14 ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے تحت ڈیڑھ گھنٹہ کی فیس کے ذریعہ ہائیڈرو پاور اور دیگر سروسز کے 2017/SC-E/05 کے تحت

